

DIRECTOR PRESS CPO NEWS ALERT

وزیر داخلہ سندھ کی ذیہ صدارت سی پی او میں اعلیٰ سطحی اجلاس ۔
ہائی ویز ایمرجینسی پولیس فورس کا قیام عمل میں لایا جائے ۔ سہیل انور خان سیال

کراچی یکم جون :

سینٹرل پولیس آفس کراچی میں وزیر داخلہ سندھ سہیل انور خان سیال کی صدارت میں منعقدہ ایک اجلاس میں امن وامان کی صورتحال اور رمضان المبارک کے دوران صوبے بھر میں قیام امن کے حوالے سے پولیس اقدامات کا جائزہ لیا گیا اور مزید ضروری احکامات دینے گئے ۔ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ ، ایڈیشنل آئی جی کراچی مشتاق احمد مہر ، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی ، سمیت تمام ڈی آئی جیز و دیگر سینئر پولیس افسران بھی اجلاس میں شریک تھے ۔

وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ تمام ڈی آئی جیز و ضلعی ایس ایس پیز متعلقہ مارکیٹ ایسوسی ایشنز ، علاقے کی سیاسی ، مذہبی اور سماجی شخصیات و قائدین سے باقاعدہ شیڈول اجلاس کر کے رمضان المبارک کا خصوصی کنٹی جینسی پلان ترتیب دیں اور بالخصوص اس ماہ کے دوران تاجر برادری کو درپیش ممکنہ ایشوز کے حل میں خاطر خواہ اقدامات کو یقینی بنائیں ۔

انہوں نے آئی جی سندھ سے کہا کہ اکثر ماہ رمضان کے دوران ڈکیتی و رہزنی کی وارداتوں میں اضافہ مشاہدے میں آیا ہے لہذا اس ضمن میں صوبائی سطح پر انسدادی اقدامات کے حوالے سے مجموعی اقدامات کو انتہائی ٹھوس اور مربوط بنایا جائے ۔ انہوں نے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو اس ضمن میں ہدایات دیں کہ ماہ رمضان سے ایک ہفتہ قبل ہی تمام ایس ایچ اوز کی نگرانی میں دو گھنٹہ اسنیپ چیکنگ کے آغاز کے اقدامات ضلعی ایس ایس پیز اور ایس ڈی پی اوز کی مانیٹرنگ کے تحت کیئے جائیں ۔

انہوں نے آئی جی سندھ سے کہا کہ موٹر وے پولیس اور لوکل پولیس کے باہمی روابط کے اقدامات کیئے جائیں اور بالخصوص ماہ رمضان میں ہائی ویز پر حادثات وغیرہ کو ریسکیو کرنے اور رابریز مؤثر طور پر انسداد کے حوالے سے ایس آر پی کے افسران اور جوانوں پر مشتمل ہائی ویز ایمرجینسی پولیس فورس کا قیام عمل میں لایا جائے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ رمضان المبارک میں ٹریفک کی روانی کے لیے صوبائی سطح پر خصوصی اقدامات کیئے جائیں ۔

آئی جی سندھ نے اس سلسلے میں ڈی آئی جی ٹریفک کو ٹریفک کا خصوصی پلان تیار کرنے کی ہدایات دیتے ہوئے حیدرآباد کے لیے ایس پی ٹریفک کی تقرری کا نوٹیفیکشن بھی جاری کیا جو ضلعی ایس ایس پی حیدرآباد کی سپرویزن میں حیدرآباد کے لیے رمضان المبارک کے دوران ٹریفک کی روانی کے ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنائیں گے ۔

آنی جی سندھ نے ہدایات دیں کہ ضلعی پولیس ، اسپیشل بران پولیس قانون نافذ کرنیوالے دیگر اداروں و انٹیلی جینس ایجینسیوں سے مربوط رابطوں پر مشتمل بالخصوص مساجد امام بارگاہوں ، نماز تراویح کے دیگر کھلے مقامات سمیت مارکیٹوں ، بچت بازاروں وغیرہ کے لیئے فول پروف سیکیورٹی اقدامات کی حکمت عملی و لائحہ عمل ترتیب دیکر فوری طور پر نافذ عمل بنائیں ۔

آنی جی سندھ نے کہا کہ کراچی میں بالخصوص رمضان کے دوران ٹریفک دباؤ کو کم کرنیکے لیئے لیاری ایکسپریس وے کا ایک ٹریک خصوصی طور پر بحال کیا جا رہا ہے جس پر باقاعدہ پولیس ڈپلنمنٹ کے اقدامات بھی کیئے جائیں گے ۔

انہوں نے پولیس کو ہدایات دیں کہ ضلعوں کی سطح پر نمازوتراویح کی ویڈیو ریکارڈنگ کے خصوصی اقدامات کیئے جائیں اور اس حوالے سے تمام مرکزی مساجد ، امام بارگاہوں و دیگر کھلے مقامات کو فوکس کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ تمام داخلی خارجی راستوں پر سرچنگ اور کڑی نگرانی کے اقدامات کیئے جائیں اور پیٹرولنگ پر مامور تمام پولیس موبائلز میں فرسٹ ایڈ باکس اور آگ بجھانے کے آلے کی موجودگی کو ممکن بنایا جائے ۔

انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران بہتہ مافیا ، زبردستی فطرہ زکوٰۃ وصول کرنیوالوں کے خلاف سخت کاروائیوں کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ افطار سے قبل اور بعد از افطار پولیس افسران اور جوانوں کو ڈیوٹی پوائنٹس ہر گز خالی نہ چھوڑنے کا پابند بنایا جائے ۔
